



سوال

(14) اختلافِ ائمہ اربعہ و اختلافِ صحابہ رضی اللہ عنہم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا اختلاف مثل اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم ہے یا اس میں فرق ہے؟ ازراہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں جزاکم اللہ خیرا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے ذرا قیاس کو زیادہ دخل دیا ہے۔ (کاش ایسا نہ کرتے) اس لئے اہل الرائے کہلاتے۔

مولانا تھانوی کا تعصب

اخبار اہل حدیث مورخہ 12 جمادی الاول 1353ھ میں مولانا ثناء اللہ صاحب نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مقیم بھون تھانہ کو میں اس وقت سے جانتا ہوں۔ جبکہ آپ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے اور مولود کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے اس کے بعد آپ دہلی بندہ خیال کے ہو گئے۔

آپ مسئلہ تقلید اور اہل حدیث کے متعلق جو کچھ فرماتے ہیں۔ وہ محض سطحی ہوتا ہے اہل حدیث سے آپ کو اتنا متنافر ہے کہ حافظ عزیز الدین صاحب مراد آبادی مصنف اکمل البیان آپ سے بیعت تھے۔ موصوف کے غیر مقلد ہوجانے کی خبر جب ممدوح کو پہنچی تو آپ نے ان کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ چونکہ تم غیر مقلد ہو گئے اس لئے میں اپنے سلسلہ بیعت سے تم کو خارج کرتا ہوں۔

محدث روپڑی نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:



بعض احباب احناف و غیر احناف کہا کرتے ہیں کہ لوگ مولوی اشرف علی تھانوی سے بہت فیض اٹھاتے ہیں۔ آپ ان کو کیوں لہجھا نہیں سمجھتے۔ اس کے جواب میں مولانا اشرف علی کی ایک دو عبارتیں سنا دیا کرتا ہوں۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف نے رسالہ مجموعہ جوئے عشر طروس کے طرس عاشر ص 170 پر لکھا ہے :

أما المصنفون فأنضم تصنیفا للعوام مولانا قطب الدین دہلوی إلى أن قال وأضرهم تصنیفا النیجریون الکبار منہم والصغار و غیر المقلدین والبتدعون .

یعنی عوام کے لئے سب سے مفید تصانیف مولانا قطب الدین دہلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا عبدالحی لکھنوی وغیرہ کی ہیں۔ اور سب سے زیادہ مضر تصانیف چھوٹے بڑے نیچر بلوں، غیر مقلدوں اور اہل بدعت کی ہیں۔

اس سے آگے لکھا ہے :

وأما المذاهب فأهل الحق منہم أهل السنة والجماعة المختصرون بالجماع من یعتد بہم فی الحنفیة والشافعیة والمالکیة والحنابلہ وأهل الهواء منہم غیر المقلدین الذین یتبعون اتباع الحدیث وأنی لهم ذلک

یعنی مذاہب میں اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اہل ہوا (گمراہ) غیر مقلدین ہیں۔ جو اتباع حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ اتباع حدیث ان کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ ہے بزرگی! اہل حق کو گمراہ کہہ کر آپ اہل حق بننے ہیں۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 01